



سَبَّأ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

سب تعریف اللہ کیلئے ہے وہ جس کیلئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اس کیلئے ہے سب تعریف آخرت میں - اور وہ حکمت والا ہے خبردار ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ  
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي  
الْآخِرَةِ وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١﴾

وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو نکلتا ہے اس میں سے اور جو اترتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس میں - اور وہ مہربان ہے بخشنے والا ہے۔

يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ  
مِنْهَا وَ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ مَا  
يَعْرُجُ فِيهَا وَ هُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾

اور کھانہوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں آئے گی ہم پر قیامت کی گھڑی - کھدو کیوں نہیں قسم ہے میرے رب کی وہ تم پر ضرور آکر رہے گی - وہ جاننے والا ہے غیب کا۔

وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا  
السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَ رَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ  
عِلْمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ

نہیں پوشیدہ اس سے ذرہ بھر کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ کوئی چھوٹی چیز اس سے اور نہ بڑی چیز مگر کتاب روشن میں ہے۔

ذَرَّةً فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ  
وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا  
فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٣﴾

تاکہ وہ جزا دے انکو جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال۔ یہی لوگ ہیں جنکے لئے ہے مغفرت اور رزق کریم۔

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ  
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾

اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی یہی وہ لوگ ہیں جنکے لئے عذاب ہے بدترین دردناک۔

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ  
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ  
أَلِيمٌ ﴿٥﴾

اور جانتے میں وہ لوگ جن کو دیا گیا ہے علم کہ جو نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے وہ یقیناً حق ہے۔ اور رہنمائی کرتا ہے اس راستہ پر جو غالب قابل تعریف کا ہے۔

وَيُرِي الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي  
أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ  
وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ  
الْحَمِيدِ ﴿٦﴾

اور کہا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ کیا ہم بتائیں تمہیں ایک آدمی جو تمہیں خبر دیتا ہے

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ  
عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ

کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے بالکل ریزہ ریزہ۔  
تو بلاشبہ تم پیدا ہو گے نئے سرے سے۔

كُلُّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ  
جَدِيدٍ ﴿٧﴾

کیا باندھ لیا ہے اس نے اللہ پر جھوٹ یا اسے  
جنون ہے۔ بلکہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے  
آخرت پر وہ عذاب میں ہیں اور گمراہی میں  
بہت دور کی۔

اَفْتَرَىٰ عَلَىٰ اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهِ جِنَّةٌ  
بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِي  
الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ﴿٨﴾

کیا نہیں دیکھا انہوں نے اسکو جو انکے آگے اور  
جو انکے پیچھے ہے آسمان میں اور زمین میں۔  
اگر ہم چاہیں تو دھنسا دیں انکو زمین میں یا گرا دیں  
ان پر ٹکڑا آسمان کا۔ یقیناً اس میں ایک  
نشانی ہے ہر بندے کے لئے جو رجوع کرنے  
والا ہے۔

اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا  
خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنْ  
نَّشَآءُ نَحْنَسِفُ بِهُمْ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطُ  
عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ اِنَّ فِيْ  
ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّٰنِيْبٍ ﴿٩﴾

اور بیشک عطا کیا تھا ہم نے داؤد کو اپنی طرف  
سے فضل۔ اے پہاڑو تسبیح کرو اسکے ساتھ اور  
پرندوں۔ اور نرم کر دیا تھا ہم نے اسکے لئے  
لوہے کو۔

وَ لَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُدَ مِّنَّا فُضْلًا لِّيُجِبٰلَ  
اَوْبٰى مَعَهُ وَاَلطَّيْرِ وَاَلنَّارِ  
الْحٰدِيْدِ ﴿١٠﴾

کہ تیار کرو کشادہ زمیں اور اندازے سے جوڑو

اَنْ اَعْمَلَ سَبِيْعَتٍ وَّ قَدِّرْ فِي

کڑیوں کو اور کرتے رہو نیک عمل۔ یقیناً اسکو جو  
کچھ تم کرتے ہو میں دیکھ رہا ہوں۔

السَّرْدِ وَ اعْمَلُوا صَالِحًا اِنِّي بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾

اور سلیمان کے لئے ہوا (کو تابع کر دیا) اسکی  
صبح کی منزل ایک ماہ کی اور اسکی شام کی منزل  
ایک ماہ کی۔ اور بہا دیا ہم نے اسکے لئے چشمہ  
تابہ کا۔ اور جنوں میں سے ایسے تھے جو کام  
کرتے تھے اسکے آگے اسکے رب کے حکم  
سے۔ اور جو کوئی خلاف ورزی کرے گا ان میں  
سے ہمارے حکم کی چکھائیں گے ہم اسکو  
عذاب جہنم کی آگ کا۔

وَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوها شَهْرٌ  
وَ رَوَاحِها شَهْرٌ وَ اَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ  
الْقَطْرِ وَ مِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ  
يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ وَ مَنْ يَّزِغْ  
مِنْهُمْ عَنۢ اَمْرِنَا نَذِقْهُ مِنْ  
عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾

وہ بناتے تھے اسکے لئے جو کچھ وہ چاہتا قلعے اور  
تصویریں اور بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں  
ایک ہی جگہ جمی ہوئی۔ ادا کرتے رہو اے  
آل داؤد شکر۔ اور تھوڑے میں میرے بندوں  
میں شکر گزار۔

يَعْمَلُونَ لَهٗ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِبٍ  
وَ تَمَاثِيلٍ وَ جِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ  
رَّاسِيَتٍ اِعْمَلُوا اِلَ دَاوُدَ شُكْرًا  
وَ قَلِيلٌ مِّنۢ عِبَادِيَ الشُّكُورُ ﴿١٣﴾

پھر جب ہم نے حکم صادر کیا اسکے لئے موت

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا

کا تو نہ پتہ دیا ان کو اسکی موت کا مگر گھن کے  
 کیرے نے جو کھاتا رہا اسکے عصا کو پھر جب وہ گر  
 پڑا تب حقیقت کھلی جنات پر کہ اگر وہ جانتے  
 ہوتے غیب تو نہ مبتلا رہتے وہ ذلت کے  
 عذاب میں۔

دَهْمٌ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ  
 تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتْ  
 الْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ  
 الْغَيْبِ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ  
 الْمُهِينِ ﴿٤٤﴾

بلا شبہ تھی اہل سبا کے لئے انکی بستی میں  
 ایک نشانی۔ دو باغ داہنی طرف اور بائیں  
 طرف۔ کھاؤ رزق میں سے اپنے رب کے اور  
 شکر کرتے رہو اس کا۔ شہر ہے پاکیزہ اور رب  
 ہے بخشنے والا۔

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ  
 جَنَّتَنِ عَنْ يَمِينٍ وَ شِمَالٍ كُلُوا  
 مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُوا لَهُ  
 بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَ رَبُّ غَفُورٌ ﴿٤٥﴾

تو منہ پھیر لیا انہوں نے پس بھیج دیا ہم نے ان  
 پر بند توڑ سیلاب اور بدل دیا ہم نے انکے  
 باغوں کو ایسے باغوں سے جنکے پھل تھے بدمزہ  
 اور جھاؤ کے پیر اور کچھ بیریاں تھوڑی سی۔

فَاعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ  
 الْعَرِمِ وَ بَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ  
 جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أَكْلِ خَمِطٍ وَ أَثَلٍ وَ شَيْءٍ  
 مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿٤٦﴾

یہ بدلہ دیا ہم نے انکو اسلئے کہ ناشکری کی انہوں  
 نے اور نہیں بدلہ دیتے ہم ایسا مگر ناشکری کا۔

ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَ هَلْ  
 نُجْزِي إِلَّا الْكَفُورَ ﴿٤٧﴾

اور بنائی تھیں ہم نے انکے اور بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی آبادیاں ایک دوسرے کے متصل اور ہم نے مقرر کر دی تھی ان میں آمدورفت۔ چلتے رہو ان میں راتوں اور دنوں کو بے خوف و خطر۔

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قَرْيَةً ظَاهِرَةً وَ قَدَرْنَا فِيهَا السَّبِيْرَ سَبِيْرًا فِيهَا لِيَالِي وَ اَيَّامًا اَمِنِيْنَ ﴿١٨﴾

تو کہا انہوں نے ہمارے رب دوری پیدا کر دے ہماری مسافتوں میں اور ظلم کیا انہوں نے اپنی جانوں پر تو بنا دیا ہم نے انہیں داستانیں اور منتشر کر دیا ہم نے انہیں بالکل بکھیر کر۔ بیشک اس میں واضح نشانیاں ہیں ہر اس فرد کے لئے جو صابر شاکر ہے۔

فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْنَا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ اَحَادِيْثَ وَ مَزَقْنَهُمْ كُلَّ مَزَقٍ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٢٠﴾

اور یقیناً سچ کر دکھایا انہیں شیطان نے اپنا گمان تو اتباع کی انہوں نے اسکی سوائے ایک جماعت نے مومنوں کی۔

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٠﴾

اور نہ تھا اس کا ان پر کچھ زور مگر یہ کہ ہم معلوم کر لیں کہ جو ایمان رکھتا ہے آخرت پر اس سے جو اسکے بارے میں شک میں ہے۔ اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ هِمِّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ وَ رَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حٰفِيْظٌ ﴿٢١﴾

کہدو کہ پکارو انکو جنہیں تم گمان کرتے ہو سوائے  
 اللہ کے۔ نہیں ہیں وہ مالک ذرہ بھر چیز کے  
 آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ ہے انکی  
 ان میں کوئی شرکت اور نہ ہے اس (اللہ) کا  
 ان میں سے کوئی مددگار۔

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ  
 دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ  
 ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ  
 وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا  
 لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾

اور نہ فائدہ دے گی سفارش اس کے پاس مگر  
 صرف اسکے لئے وہ اجازت بخٹے جسکو۔ یہاں  
 تک کہ جب دور کر دیا جائے گا اضطراب انکے  
 دلوں سے تو کہیں گے کہ کیا فرمایا ہے  
 تمہارے رب نے۔ وہ کہیں گے کہ حق۔ اور  
 وہ ہے عالی رتبہ سب سے بڑا۔

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ  
 أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ  
 قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ  
 وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾

کہو کہ کون رزق دیتا ہے تمکو آسمانوں میں اور زمین  
 میں۔ کہو کہ اللہ۔ اور بیشک ہم یا تم ہی یا تو  
 ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَ إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ  
 لَعَلَىٰ هُدًىٰ أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾

کہدو نہ پوچھ ہوگی تم سے اسکی جو ہم نے جرم کئے  
 اور نہ ہم سے پوچھ ہوگی اسکی جو تم کرتے ہو۔

قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا  
 نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾

کدو جمع کرے گا ہم سب کو ہمارا رب پھر فیصلہ  
کر دے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ۔ اور  
وہ ہے بہتر فیصلہ کرنے والا جاننے والا۔

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا  
بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾

کدو دکھاؤ مجھے وہ جنہیں ملا رکھا ہے تم نے  
اسکے ساتھ شریک۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہی اللہ  
ہے غالب حکمت والا۔

قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ الَّذِينَ الْحَقُّمُ بِهِ  
شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ  
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

اور نہیں بھیجا ہم نے تکو مگر تمام انسانوں کے  
لئے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا لیکن  
اکثر لوگ نہیں جانتے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ  
بَشِيرًا وَ نَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ  
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

اور وہ کہتے ہیں کب (پورا ہو گا قیامت کا) یہ  
وعدہ اگر تم سچ کہتے ہو۔

وَ يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن  
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾

کدو تمہارے لئے وعدہ کا ہے ایک دن نہ  
پچھے رہ سکو گے جس سے ایک گھڑی اور نہ  
آگے بڑھ سکو گے۔

قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ  
عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾

اور کہا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ ہرگز نہیں  
ایمان لائیں گے ہم اس قرآن پر اور نہ ان

وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ  
بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ



(کتابوں) پر جو اس سے پہلے کی ہیں۔ اور کاش تم دیکھو جب یہ ظالم کھڑے کئے جائیں گے اپنے رب کے سامنے۔ رد کریگا ان میں سے ایک دوسرے کی بات۔ کہیں گے وہ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان سے جو تکبر کرتے تھے اگر نہ تم ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔

يَدِيهِ وَ لَوْ تَرَىٰ اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ<sup>ط</sup> يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَا اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٣١﴾

کہیں گے وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے ان سے جو کمزور سمجھے جاتے کیا ہم نے روکا تھا تمکو ہدایت سے اسکے بعد جب وہ تمہارے پاس آچکی تھی نہیں بلکہ تم ہی مجرم تھے۔

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا اَنْحُنْ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ جٰرِمِيْنَ ﴿٣٢﴾

اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان سے جو تکبر کرتے تھے نہیں بلکہ یہ سازشیں تمہیں رات اور دن کی جب تم علم دیتے تھے ہم کو کہ ہم کفر کریں اللہ کے ساتھ اور بنائیں اسکا شریک۔ اور چھپائیں گے ندامت جب دیکھیں گے وہ عذاب۔ اور ڈال دیں گے ہم طوق گردنوں میں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر

وَ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكَرُ الْاِيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَ نَا اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهُ اَنْدَادًا وَّاسْرُوْا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاُوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْاَغْلَلَ فِيْ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ

يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

کیا۔ نہیں بدلہ پائینگے مگر جو وہ کیا کرتے تھے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِهَذَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٤﴾

اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا مگر کہا وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہ یقیناً ہم وہ جو تم دے کر بھیجے گئے ہو اسکا انکار کرتے ہیں۔

وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَ أَوْلَادًا وَ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٥﴾

اور کہا انہوں نے کہ ہم زیادہ ہیں اموال اور اولاد میں اور نہیں ہم عذاب دیے جانے والوں میں۔

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

کہدو یقیناً میرا رب فراخ کر دیتا ہے رزق کو جسکے لئے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے (جسکے لئے چاہتا ہے) لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَ لَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُفَىٰ إِلَّا مَنَ أَمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَ هُمْ فِي الْعُرْفِ أَمُونَ ﴿٣٧﴾

اور نہیں تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد ایسے کہ قریب کر دیں تمکو ہم سے کسی درجہ میں سوائے اسکے جو ایمان لایا اور کرتا رہا نیک عمل۔ پس یہی لوگ ہیں جنکے لئے ہے اجر دگنا بسبب جو عمل انہوں نے کئے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں امن سے ہوں گے۔

اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی وہ عذاب میں حاضر کئے جائیں گے۔

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ  
أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٢٨﴾

کمدو یقیناً میرا رب فراخ کر دیتا ہے رزق جسکے لئے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لئے (چاہتا ہے)۔ اور جو خرچ کرو گے تم کوئی چیز تو وہ عوض دے گا اسکا۔ اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ وَ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٢٩﴾

اور جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو پھر فرمائے گا فرشتوں سے۔ کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے۔

وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٣٠﴾

وہ کہیں گے تو پاک ہے تو ہی ہمارا کار ساز ہے ان کے سوائے۔ بلکہ یہ پوجا کرتے تھے جنات کو۔ ان میں سے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے۔

قَالُوا سُبْحٰنَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٣١﴾

پس آج نہیں اختیار رکھتا تم میں سے کوئی کسی کے لئے نفع اور نہ نقصان کا اور ہم کہیں گے

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَ لَا ضَرًّا وَ نَقُولُ لِلَّذِينَ

ان سے جہنوں نے ظلم کیا کہ چکھو عذاب  
دوزخ کا وہ تم جس کو جھٹلاتے تھے۔

ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي  
كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾

اور جب پڑھی جاتی ہیں انپر ہماری روشن آیتیں  
تو کہتے ہیں نہیں یہ سوائے ایک شخص کے جو  
چاہتا ہے کہ روک دے تمکو ان سے جن کی  
عبادت کیا کرتے تھے تمہارے باپ دادا۔ اور  
کہتے ہیں کہ نہیں یہ سوائے ایک جھوٹ کے  
جو گھڑ لیا گیا ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جہنوں  
نے کفر کیا حق کے بارے میں جب آیا ان  
کے پاس۔ کہ نہیں یہ مگر جادو کھلا ہوا۔

وَ إِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ  
قَالُوْا مَا هٰذَا اِلَّا رَجُلٌ يُرِيْدُ اَنْ  
يُّصَدِّكُمْ عَمَّا كَانِ يَعْبُدُ اٰبَاؤُكُمْ  
وَقَالُوْا مَا هٰذَا اِلَّا اِفْكٌ مُّفْتَرٰى  
وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا  
جَآءَهُمْ اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ  
مُّبِيْنٌ ﴿٤٣﴾

اور نہیں دی تمہیں ہم نے ان کو کتابیں جنکو یہ  
پڑھتے ہوں اور نہ ہی ہم نے بھیجا ان کی  
طرف تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا۔

وَ مَا آتَيْنَهُمْ مِّنْ كِتٰبٍ يَّدْرُسُوْنَهَا  
وَ مَا اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ  
نَّذِيْرٍ ﴿٤٤﴾

اور تکذیب کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے  
پہلے تھے۔ اور نہیں پہنچے یہ دسویں حصے کو  
بھی جو ہم نے انکو دیا تھا پھر جھٹلایا تھا انہوں

وَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ مَا  
بَلَّغُوْا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوْا

رُسُلِي<sup>تف</sup> فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ<sup>ع</sup>

نے میرے رسولوں کو سوکیسا ہوا میرا عذاب۔

قُلْ إِنَّمَا أَعْطُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفَرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ<sup>ج</sup> مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ<sup>ط</sup>

کہدو کہ صرف میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایک بات کی۔ کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لئے دو دو اور اکیلے اکیلے پھر غور کرو۔ نہیں ہے تمہارے رفیق کو کوئی جہنم۔ نہیں یہ سوائے ڈرانے والے تمکو آمد سے پہلے ایک سخت عذاب کی۔

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ<sup>ط</sup>

کہدو کہ جو مانگا ہو میں نے تم سے کوئی اجر تو وہ تمہارا۔ نہیں میرا اجر مگر اللہ کے ذمے۔ اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِرُ بِالْحَقِّ عَلامَ الْغُيُوبِ<sup>ج</sup>

کہدو کہ بیشک میرا رب اوپر سے نازل کرتا ہے حق کو۔ وہ جاننے والا ہے غیب کی باتوں کا۔

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ مَا يُبْدِي<sup>ط</sup> الْبَاطِلُ وَ مَا يُعِيدُ<sup>ع</sup>

کہدو کہ آچکا ہے حق اور نہ پہلے کچھ کر سکتا ہے باطل اور نہ دوبارہ کچھ کرے گا۔

قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى

کہدو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو بس میری گمراہی

مجھی پر ہے۔ اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس بنا پر ہے کہ وحی کرتا ہے میری طرف میرا رب۔ بیشک وہ سننے والا ہے نزدیک ہے۔

نَفْسِي وَ إِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحِي  
إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٦﴾

اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو نہیں بچ سکیں گے اور پکڑ لئے جائیں گے نزدیک ہی سے۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ  
وَأَخَذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥٧﴾

اور کہیں گے کہ ایمان لے آئے ہم اس پر۔ اور کہاں اب ان کے لئے ان کے ہاتھ کا پہنچنا (ایمان تک) اتنی دور کی جگہ سے۔

وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَ أَنَّىٰ لَهُمُ  
التَّنَاقُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٨﴾

اور یقیناً انہوں نے کفر کیا اسکا پہلے اور اکل کے تیر چلاتے رہے بن دیکھے دور ہی سے۔

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْدِفُونَ  
بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٩﴾

اور پردہ حائل کر دیا گیا ان کے اور اس کے درمیان جو خواہشیں وہ کرتے تھے جیسا کہ کیا گیا انکے ہم جنسوں سے پہلے۔ یقیناً وہ تھے شک میں الجھن میں ڈالنے والے۔

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ  
كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِمَّنْ قَبْلُ  
إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ ﴿٦٠﴾

